



### آتش بازی کے سامان کے فروخت کنندگان کی آن لائن ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے

برامپٹن، آن (7 اکتوبر 2021) – سٹی آف برامپٹن کا آن لائن تربیتی عمل ان فروخت کنندگان کے لیے کھلا اور دستیاب ہے جو 4 نومبر کو دیوالی کے موقع پر اور 31 دسمبر کو نئے سال کے موقع پر آتش بازی کا سامان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی تربیت سال کے اوائل میں وکٹوریہ ڈے اور کینیڈا ڈے کے لیے بھی دستیاب کرائی گئی تھی۔

آتش بازی کا سامان فروخت کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ لازمی ہے اور اس کورس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔

اس کورس میں رجسٹر ہونے کے لیے دلچسپی رکھنے والے فروخت کنندگان برامپٹن فائر پریوینشن ڈویژن کو 905.874.2740 پر کال کر سکتے ہیں یا [fire.prevention@brampton.ca](mailto:fire.prevention@brampton.ca) پر ای میل بھیج سکتے ہیں، اور درخواست دہندگان کو کورس کی تفصیلات ای میل کر دی جائیں گی۔

کووڈ-19 کی وجہ سے صحت و تحفظ کی لاگو شدہ پابندیوں کی بناء پر یہ تربیتی کورس درج ذیل پانچ آسان مراحل میں آن لائن طور پر پیش کیا جائے گا:

1. 2021 فائر ورکس ریٹیلر کورس کے لیے ادائیگی جمع کرائیں اور [فائر انسپیکشن](#) کے درخواست دیں۔
2. فائر ورکس ریٹیلر ٹریننگ ویڈیوز دیکھیں
3. فائر ورکس ریٹیلر سولنامہ مکمل کریں
4. لائسنس کی درخواست اور رجسٹریشن فیس جمع کرائیں۔ تفصیلات کے لیے [licensing@brampton.ca](mailto:licensing@brampton.ca) پر رابطہ کریں۔
5. سٹی ہال سے ذاتی طور پر 2021 فائر ورکس ریٹیلر لائسنس وصول کریں۔ سٹی ہال میں تشریف لانے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا لازمی ہے اور بذریعہ [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) بک کرائی جا سکتی ہے۔

سامان آتش بازی کے فروخت کنندگان کی تربیت میں فروخت کے لیے منظور شدہ آتش بازیوں کی اقسام، ذخیرہ کرنے، نمائش اور فروخت کے قواعد، خریداروں کے لیے شناخت کی شرط اور ڈسٹریبیوشن کے لیے حفاظتی رہنما خطوط شامل ہوں گے۔

ایسے فروخت کنندگان جو ایک سے زیادہ مقامات سے کام کرتے ہوں، ان کے ہر مقام سے کم از کم ایک آپریٹر کو یہ کورس لازمی مکمل کرنا چاہیے۔ فائر انسپیکشن کے لیے درخواست دینے کے حوالے سے، جو [آن لائن](#) ہو سکتی ہے، فروخت کنندگان کو درج ذیل آخری تاریخیں بھی لازمی نوٹ کرنی چاہیں:

- جمعہ، 15 اکتوبر 2021 برائے دیوالی فائر ورکس
- جمعہ، 10 دسمبر 2021 برائے نیو ایئرز ایوو فائر ورکس

سٹی آف برامپٹن کے فائر ورکس ہائی لاز کے مطابق سال میں صرف چار بار - یعنی وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو ایئرز ایوو کے موقع پر صرف مختصر فاصلے والے آتشبازی (جو 3 میٹر یا 10 فٹ سے بھی کم فاصلے پر جاتی ہو) کی فروخت اور ذاتی استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔



## Service and Information Update

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن  
905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)